

برائے فوری اجراء

برامپٹن کی تنظیمیں ریک بینسین فاؤنڈیشن ایکسیبلٹی سرٹیفیکیشن کی اعزازی درجہ بندی کے لیے درخواست دے سکتی ہیں

برامپٹن، آن (11 مارچ 2020) - برامپٹن کو اونٹیریو کی آن دس میں سے ایک میونسپلٹی کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے جن کی مقامی تنظیمیں ریک بینسین فاؤنڈیشن ایکسیبلٹی سرٹیفیکیشن (RHFAC) کی اعزازی درجہ بندی کے لیے درخواست دے سکتی ہیں، جو ایک ایسا پروگرام ہے جس کے تحت اس بات کی درجہ بندی کی جاتی ہے کہ قابل رسائی عمارتیں معذور لوگوں کی رسائی کے لیے کس حد تک آسان اور بہترین بنائی گئی ہیں۔

معذور افراد کے لیے اپنی عمارتوں میں رسائی کی آسانی کو سمجھنے اور اس میں بہتری لانے کے طریقوں کی شناخت کے لیے پورے شہر کی غیر منافع بخش تنظیموں کے علاوہ تمام نجی اور سرکاری تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ RHFAC کی مفت درجہ بندی کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسی عمارتیں جن کو بلند درجے عطا کیے جائیں گے، انہیں ریک بینسین فاؤنڈیشن ایکسیبلٹی سرٹیفیکیشن یا ایکسیبلٹی سرٹیفیکیشن گولڈ کے طور پر جانا جائے گا۔

کمیونٹیز کو زیادہ قابل رسائی بنانے کے مقصد کے حصول کے لیے اس نئے اعزازی RHFAC پروگرام کو مالی معاونت اونٹیریو کی حکومت اور ریک بینسین فاؤنڈیشن کی جانب سے مہیا کی گئی ہے۔ برامپٹن کو اس کی آبادی کے حجم اور جغرافیائی تنوع کی بناء پر منتخب کیا گیا ہے۔ اس اعزازی RHFAC درجہ بندی کے لیے پورے برامپٹن سے تقریباً 25 مقامات کو اہل تصور کیا گیا ہے۔ تنظیموں کو لازمی طور پر 27 مارچ تک بذریعہ www.rickhansen.com/freerating درخواست دے دینی چاہیے۔

RHFAC کے متعلق مزید معلومات کے لیے، براہ کرم www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

سرخیاء

- ایسی تنظیمیں جو RHFAC پروگرام کی درجہ بندی حاصل کریں گی، انہیں درجہ بندی کا ایک اسکور کارڈ بھی دیا جائے گا جس سے وہ اپنی عمارت کے مثبت اور منفی پہلوؤں کے بارے میں جان سکیں گے۔
- سٹی آف برامپٹن کی ایکسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی جو شہریوں کے ممبران پر مشتمل ہو گی، مئی/جون کے اوائل میں RHFAC پروگرام کے تحت موصول ہونے والی تمام درخواستوں کا جائزہ لے گی۔ کامیاب درخواست دہندگان کو 3 جولائی 2020 تک مطلع کر دیا جائے گا۔
- سٹی آف برامپٹن اور اس کی www.brampton.ca ایڈوائزری کمیٹی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ برامپٹن میں رہنے والے ہر عمر اور ہر طرح کی استعداد کے حامل لوگ برامپٹن میں رہائش، کام، کھیل، سیر اور سرمایہ کاری کے ایک جیسے مواقع سے لطف اندوز ہونے چاہیں۔

اقتباسات

"برامپٹن مختلف کمیونٹیوں کا ایک حسین مسکن ہے اور سٹی کی جانب سے ہم معذوری کے حامل افراد کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور ہم اپنی متنوع کمیونٹی کے لیے رسائی بڑھانے کے ہر طرح کے مواقع کی شناخت کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ میں نہایت پرجوش ہوں کہ برامپٹن کو RHFAC پروگرام میں منتخب کر لیا گیا ہے اور میں اپنی مقامی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہمارے شہر کو سب کے لیے قابل رسائی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ایکسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی میں کونسل کے نمائندے کی حیثیت سے، مجھے فخر ہے کہ ہم اپنی کمیونٹیوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ برامپٹن کو ہر عمر اور مختلف صلاحیتوں کے حامل لوگوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنائے گا۔ میں ہر قسم کی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ RHFAC درجہ بندی حاصل کرنے کے لیے اس مفت موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ رکاوٹوں کو دور کر کے،

ہمارا شہر سب کے لیے زیادہ جامع اور قابل رسائی بن جائے گا، جس سے معذور افراد کو ہماری کمیونٹی میں مکمل طور پر گھل مل جانے کا موقع میسر آئے گا۔"

- پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8؛ ممبر ایکسیسیٹیو ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر ریجن آف پبل ایکسیسیٹیو ایڈوائزری کمیٹی

"اوتٹاریو حکومت کی جانب سے اس فراخ دلانہ مالی معاونت سے بہت ساری تنظیموں کو اپنی عمارتوں کی رسائی کو سمجھنے اور اس کی نمائش کرنے میں مدد ملے گی، اور تعمیرات کے ماحول کے حوالے سے انہیں مستقبل میں بھی رسائی کے منصوبوں سے آگاہ ہونے میں مدد ملے گی۔ یہ تنظیموں کے لیے ایک بہت شاندار موقع ہے کہ وہ اوتٹاریو کو ہماری عمر بڑھنے والی آبادی اور معذور افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے مزید جامع بنانے میں مدد کریں۔"

- براڈ میک کینیڈا، وائس پریزیڈینٹ، ایکسیسیٹیو اینڈ انکلوزن، ریک بینسین فاؤنڈیشن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca